

صَمِيْرٌ مَجْرُورٌ مُتَّصِلٌ

(Attached pronoun) Muttassil Zameer

جب ضمیر اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہے تو اس کی پوزیشن ہمیشہ "مضاف الیہ" ہوتی ہے اس لیے وہ مجرور ہوتی ہے۔





When a pronoun is attached to an اسم , it is always a مضاف الیہ and so it is مجرور .

جب ضمیر ظرف کے ساتھ جڑ کر آتی ہے تو اس کی پوزیشن ہمیشہ "مضاف الیہ" ہوتی ہے اس لیے وہ مجرور ہوتی ہے۔

When it is attached to a ظرف , it is always a مضاف الیہ and so it is مجرور .

جب ضمیر حرف جر کے ساتھ جڑ کر آتی ہے تو اس کی پوزیشن ہمیشہ "اسم مجرور" ہوتی ہے اس لیے وہ مجرور ہوتی ہے۔

When a pronoun is attached to a حرف جر then it is an اسم مجرور and it is مجرور .

موجودگی Presence	صَمِيْرٌ مَجْرُورٌ مُتَّصِلٌ (جڑ کر آنے والی ضمیر) (Attached pronoun) Muttassil Zameer	
	اس ایک (کو، کی، کے) (سے، کیلئے، میں) وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ (He – singular masculine third person)	ہ
	ان دو (کو، کی، کے) (سے، کیلئے، میں) ثَنَيْنِيَّةٌ مُذَكَّرَةٌ غَائِبَةٌ (Th – two masculines third person)	ہما
	ان سب (کو، کی، کے) (سے، کیلئے، میں) جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ (They – all masculine third person)	ہم
	اس ایک (کو، کی، کے) (سے، کیلئے، میں) وَاحِدَةٌ مُؤَنَّثَةٌ غَائِبَةٌ (She – singular feminine third person)	ہا

	<p>ان دو (کو، کی، کے) (سے، کیلئے، میں)</p> <p>تَثْنِيَّةٌ مُؤَنَّثَةٌ عَائِبَةٌ</p> <p>(They – two feminine third person)</p>	<p>هُمَا</p>
	<p>ان سب (کو، کی، کے) (سے، کیلئے، میں)</p> <p>جَمْعٌ مُؤَنَّثَةٌ عَائِبَةٌ</p> <p>(They – all feminine third person)</p>	<p>هُنَّ</p>
	<p>(تمہارا، تمہاری، تمہیں، تمہارے)</p> <p>وَاحِدٌ مَذَكَّرٌ مُخَاطَبٌ</p> <p>(You – one masculine present)</p>	<p>كَ</p>
	<p>(تمہارا، تمہاری، تمہیں، تمہارے)</p> <p>تَثْنِيَّةٌ مَذَكَّرٌ مُخَاطَبٌ</p> <p>(You – two masculine present)</p>	<p>كُما</p>
	<p>(تمہارا، تمہاری، تمہیں، تمہارے)</p> <p>جَمْعٌ مَذَكَّرٌ مُخَاطَبٌ</p> <p>(You – all masculine present)</p>	<p>كُم</p>
	<p>(تمہارا، تمہاری، تمہیں، تمہارے)</p> <p>وَاحِدَةٌ مُؤَنَّثَةٌ مُخَاطَبَةٌ</p> <p>(You – one feminine present)</p>	<p>كِ</p>
	<p>(تمہارا، تمہاری، تمہیں، تمہارے)</p> <p>تَثْنِيَّةٌ مُؤَنَّثَةٌ مُخَاطَبَةٌ</p> <p>(You – two feminine present)</p>	<p>كُما</p>
	<p>(تمہارا، تمہاری، تمہیں، تمہارے)</p> <p>جَمْعٌ مُؤَنَّثَةٌ مُخَاطَبَةٌ</p> <p>(You – all feminine present)</p>	<p>كُنَّ</p>



(میری، میرے، میرا) (مجھ، مجھے)

وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ مُتَكَلِّمٌ


(I – masculine first Person)

(میری، میرے، میرا) (مجھ، مجھے)

وَاحِدَةٌ مُؤَنَّثَةٌ مُتَكَلِّمَةٌ

(I – feminine first Person)

ہی



(ہماری، ہمارے، ہمارا)

تَنْثِيئَةٌ مُذَكَّرٌ مُتَكَلِّمٌ

(We- two masculine first Person)

(ہماری، ہمارے، ہمارا)

تَنْثِيئَةٌ مُؤَنَّثَةٌ مُتَكَلِّمَةٌ

(We – two feminine first Person)

(ہماری، ہمارے، ہمارا)

جَمْعٌ مُذَكَّرٌ / جَمْعٌ مُؤَنَّثَةٌ مُتَكَلِّمَةٌ

(We – all masculine / We – all feminine first Person)

نا

انواع الضمائر (ضمائر کی اقسام)

(Kinds of Personal pronouns)

ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ (Marfu Detached pronouns)	ضَمِيرٌ مُنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ (Mansoob Attached pronouns)	ضَمِيرٌ مُجْرُورٌ مُتَّصِلٌ (Majroor Attached pronouns)	ضَمِيرٌ مُرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ (Marfu Attached pronouns)	ضَمِيرٌ مُرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ (Marfu Detached pronouns)
مفعول به مقدم ضمير + فعل	فعل + مفعول به ضمير	اسم + مضاف إليه ضمير ظرف + مضاف إليه حرف جر + اسم مجرور	فعل + فاعل ضمير	(مبتدأ)
أَيَا هـ	هُ	هُ	(هُوَ) مُسْتَنَبَرٌ	هُوَ
أَيَا هُمَا	هُمَا	هُمَا	ا	هُمَا
أَيَا هُمْ	هُم	هُم	و	هُم
أَيَا هَا	هَا	هَا	(هِيَ) مُسْتَنَبَرٌ	هِيَ
أَيَا هُمَا	هُمَا	هُمَا	ا	هُمَا
أَيَا هُنَّ	هُنَّ	هُنَّ	نَ	هُنَّ
أَيَا كِ	كِ	كِ	تِ	أَنْتِ
أَيَا كُمَا	كُمَا	كُمَا	تُمَا	أَنْتُمَا
أَيَا كُمْ	كُم	كُم	تُم	أَنْتُمْ
أَيَا كِ	كِ	كِ	تِ	أَنْتِ
أَيَا كُمَا	كُمَا	كُمَا	تُمَا	أَنْتُمَا
أَيَا كُنَّ	كُنَّ	كُنَّ	تُنَّ	أَنْتُنَّ
أَيَا نِي	نِي	نِي	نِي	أَنَا
أَيَا نَا	نَا	نَا	نَا	أَنْحُنَّ

ضَمِيرٌ مُجْرُورٌ مُتَّصِلٌ / ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ

حرکات کی تبدیلی کی وجہ

آپ جانتے ہیں تمام ضمائر مبنی ہوتی ہیں۔ اعراب کی تبدیلی سے ضمائر کی ظاہری شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مگر متصلہ ضمائر کے کچھ صیغوں میں حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے بولنے میں آسانی کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن ضمائر میں حرکات بدلتی ہیں وہ مندرجہ ذیل 5 ہیں۔ (ھ , ہما , ہم , ہما , ہن)

All pronouns are fixed. Declension does not cause any change in their apparent form. But in some of the attached pronouns we see a change in vowel signs only for the sake of ease in pronunciation. It does not cause any change in meanings. The 5 pronouns given above are the ones which have such change of vowel signs.

مندرجہ بالا پانچ (5) ضمائر سے پہلے حرف پُرَا گر کسرة یا یاء (ئی) ساکنہ آجائے تو ان پانچ ضمائر کے پہلے حرف (ھ) پر ضَمَّة کی جگہ کسرة آجاتا ہے۔

If a Kasrah or Ya Sakinah occurs on the preceding letter of the above 5 pronouns then the Dammah on the last letter of these five is replaced by a kasrah.

ھ , ہما , ہم , ہما , ہن بدل کر (Change into) ھ , ہما , ہم , ہما , ہن ہو جاتے ہیں۔

﴿حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

﴿لِلَّهِ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ﴾

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾

یاء ساکن (ئی) قاعدة

ضمیر متصل کے صیغہ (ئی) یاء متکلم سے پہلے اگر ایک اور یاء ساکن (ئی) آجائے تو دونوں یاء مدغم ہو جاتی ہیں اور ان پر تشدید کے ساتھ فتحہ (ئی) آجاتا ہے مثلاً

If one more Ya Sakinah precedes یاء متکلم of the attached pronoun then both Ya get merged and get a symbol of تشدید with a Fatha ى.

ئی + ئی (یاء متکلم) = ئی

عَلَى + ئی = عَلَیَّ / فِی + ئی = فِیَّ

نون الوقایة (ن) قاعدة

اگر حرف جرّ من کے بعد یاء متکلم نی آجائے تو "من" کے بعد ایک نون مکسورة "ن" کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس نون کو نون الوقایة (ن) کہتے ہیں۔ اس کے اضافے کی وجہ ہے کہ یاء متکلم نی سے پہلے کسرہ آنا ضروری ہے اور "من" کے نون پر سکون کی حفاظت کے لیے اس نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یاء متکلم سے پہلے کا کسرہ نون الوقایة (ن) کو دیا گیا ہے۔

If یاء متکلم follows the preposition من then a ن with kasrah is added to من which is called نون الوقایة. The reason behind this addition is that یاء متکلم is always preceded by a kasrah. So for protecting the Sukoon on ن of من this نون الوقایة is added which gets the kasrah preceding یاء متکلم.

مَنْ + نِ (نون الوقایة) + ئی (یاء متکلم) = مَنِی

﴿ فَاِمَا يَا تَيْنَكُمْ مِّنِّي هُدًى ﴾

نوٹ: اوپر دیئے گئے تمام قواعد میں ضمیر کی ظاہری شکل کی تبدیلی کی وجہ صرف الفاظ کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ہے ان تمام تبدیلیوں سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

Note: Remember that the reason behind the change in the apparent form of the pronoun given in all the above rules are only for the sake of ease in pronunciation. They do not cause any change in meanings.